

40. AL-MU'MIN (TUN BEIMEN)

Suet ke-40: 85 ayat

Ngen sembut gen Allah De Maho Pengasiak, Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Hanya Allah gin amen maksud ne.

حَم

2. Dituunkan kitab to (Al Quran) kunei Allah gi maha perkaso igei maha namen

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

3. Gi mengamponi duso ngen nerimo tobat igei tello hukuman ne gi. Temuan karunia, coa de Tuhan (gi behak senmeak) seluyen sih. Cumin ngen sih ba ite belek (kute makhluk).

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي

الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

4. Coa ade gi memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, seluyen tun-tun gi kafir karno do'o jemabobah belek tobo o ngen bebas kunei do kota mai kota gi luyen memperdayokan kumu.

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا

يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبَلَدِ

5. Sebati tobo'o, kaum Nuh ngen golongan-golongan ne gi mendueikan sesudo o bi mengike (rasul) ngen tiep-tiep umat merencanakan maker terhadap rasul to bo o untuk menawannya gen tobo o mbantah ngen (alas an) gi betil utuk melaput kebena ngen gi batil o karno do'o uku azab tobo o, mako ngen padeak (gisne) asap ku ?.

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ

وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ

عِقَابِ

6. Ngen do'o ba bi pasti belakau, ketetapan azab Tuhan nu tehadep tun-tun kafir karno sesungguhnya tobo o ba temungeu nerako.

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

7. (Malaikat-malaikat) gi mikut Arsy ngen malaikat gi berado nak sekeliling ne bertasbi ngujai tuhan ne ngen tobo o beriman ngen ne (serayo madeak) ya

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا

- Tuhan keme, serto meminei apun bagei tun-tun gi beriman rahmat ngen ilmeu nu meliput kute.
- وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾
8. Ya Tuhan keme ngen masukan ba to bo o may lem surgo. Aon gi sudo ko janjei utuk tobo o ngen tun-tun gi boleh nak antaro bapak-bapak to bo o ngen ngenyan-ngenyan to bo o ngen keturunan to bo o kete. Sesungguhnya ko ba go maha perkaso igei maha bijaksana.
- رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾
9. Ngen peliharo bat obo o kunei (balesan) kejahatan ngen tun-tun gi peliharo kunei (pembalesan) kejahatan pado bilei o mako sesungguhnya sudo ko anugrahkan rahmat utuk ne ngen do'o ba kemenangan gilei.
- وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾
10. Sesungguhnya tun-tun gi kafir gi serukan utuk o (ngen bilei kiamat) sesungguhnya kejengik Allah (ngen ne) lebeak lei kunei kejengik ne utuk direi ne suang karno kumu diseur utuk beriman sudo o kumu kafir.
- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾
11. To bo o menjawab: ya Tuhan keme ko sudo memademkan keme duwei kilei ngen sudo menghidupkan keme duwei kilei (pulo) sudo o keme mengakeu duso-duso keme. Mako ado ba sesuatew dalem 9bagei keme) utuk keluwea (kunei nerako).
- قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾
12. Gi demikian o ade ba karno kumu kafir kalew Allah bae gi senbah. Ngen kumu percayo kalew Allah didueikan, mako putusan (uyo ba) adeba utuk Allah gi maha lekat igei maha lei
- ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَمَّنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾
13. Sib a gi kemleak utuk nu, tando-tando 9kekuasaan) ne, ngen menuunkan utuk nu, rezkai kenei lengek. Ngen cibeiba dapet pelajaran seluyen tun-tun gi belek
- هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾








(ngen Allah).

14. Mako senbeak ba Allah ngen menjerneakkan ibadat utuk ne meskipun tun-tun kafir coa setujeu (ne). فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾
15. (Sib a) gi maha lekat derajatne gi temuan Arsyi, gi mengutus Jibril, ngen (mbin) priteak ne utuk api gi lak ne neak antaro hamba-hamba ne, supayo sih menginget (manusio) tetang bilei betemeu (bilei kiamat). رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾
16. (Do'o ba) bilei (ketiko) to bo o kelwea (kunei koboa) coa de do pun kunei keadaan to bo o gi bersembunyi kenei Allah (sudo allah berfirman) temuan api ba kerajaan pado bilei yo? Temuan Allah gi maha esa igei maha mengaleak kan. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴿١٦﴾ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾
17. Pado bilei yo ba tiap-tiap jiwo neliy balesan ngen jano gi diusahakan ne. coa ade gi rugei pado bilei yo sesungguhnya Allah lebeak gacang hisepne. الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾
18. Melei bat obo o peringatan ngen bilei gi paak (bilei kiamat do'o ba) ketiko atei (menyesak) sapei nak kung, ngen menaen kesedihan, tun-tun gi zalim, coa temuan kuat setia do pun ngen coa 9pulo) temuan do tun meley syafaat gi tenimo syafaat ne. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ ۗ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾
19. Si meley namen (pingleak) matei gi khianat ngen jano gi naik ngen atie. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾
20. Ngen Allah mengukum ngen keadilan ngen senmeak-senmeak gi tobo o senmeak seluyen Allah coa de dapat mengukum ngen jano bae, sesungguhnya Allah sih ba gi maha temngo a igei maha وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

kemleak.



21. Ngen jano bat obo o coa mengadakan perjalanan nak muko lenget, laleu kemleak betapa kesudohan tun-tun gi senati tobo o. Tobo o adeba lebeak baes kekuatan ne kunei pado tobo o ngen (lebeak dew) kes-kes tobo o nak mokoa lenget mako Allah mengazab tobo o dek karno duso-duso tobo o ngen tobo o coa temuan pun pelindung kunei azab Allah.
- ﴿أُولَٰئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ﴾
22. Do smudo ne ade ba kareno do diyen ne Rasul-rasul bi teko ngen tebo'o mbin bukti-bukti do nyato sudo'o tebo'o ingkar, mako Allah melei azab ngen tebo o. sebeneane si maha kuat, maka keras hukumanne.
- ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
23. Do diyen ne, keme bi mutus musa untuk mbin ayat-ayat keme ngen keterangan do nyato.
- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾
24. Tobo Fir'aun, Haman ngen Qarun, sudo o tebo o madeak, (Musa) o tunne pesihir ngen pendusta.
- ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمٰنَ وَقُرُونَ ۚ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذٰبٌ﴾
25. Mako waktau si (Musa) teko ngen tebo'o mbin do benean ne kunie keme tebo'o madeak "nunyak ba ank-anok smanie kunei tun-tun do berimen besamo ngen si nunyau ba idup slawei-slawei tobo o. tapi meliyut tun kafia sio-sio bae.
- ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِن عِنْدِنَا قَالُوا أَفْتُلُوٓا۟ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ ۖ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ﴾
26. Fir'aun madeak ngen ktuai-ketuaine):"kunyai uku bae munyak Musa ngen smanyo si memohon ngen Tuhanne. Sebeneane uku renyang si tmukar Agamonu atau tmimboa kidek neak bumi.
- ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾
27. Musa madeak, "sebeneane uku berlindung ngen Tuhanku ngen Tuhannu
- ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ﴾

kunei tp tun do omong dirai do coa berimen ngen bilai perhitungan”.	
<p>28. Tun do berimen neak antaro keluarga Fir'aun do munyin imenne madeak “jano kah ko lok munuak tun kareno sia madeak, Tuhanku ade ba Allah” padahal sebeneane si bi teko ngen ko mbin bukti-bukti do nyato kunei Tuhannu. Amen sit un ne pendusta mako sib a do gi termanggung (doso) dustane o, amen sit un ne benea, niscayo (musiba) do gi nancam ne pa'o ngen ko akan belek ngen ko. Sebeneane Allah coa melei petunjuk ngen tun do gi melebihi batas ngen pendusta.</p>	<p>وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ</p> 
<p>29. Woi umatku: “Pado bilai yo kerajaan ade ngen ko do gi berkuaso neak bumi, tapi api do temulung ite kunei azab Allah amen (azab o) kemno ite?” Fir'aun madeak.” Uku hanyo madeak ngen ko, gen kemliak ku baik, uku hanyo temunyak ngen ko dalen do benea”.</p>	<p>يَقَوْمِ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ</p> 
<p>30. Tun berimen o madeak, Woi Umatku! Sebeneane uku renyang udi akan keno (bencana) awei bilai ajua neak golongan bersekuti.</p>	<p>وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ</p> 
<p>31. (Do o ba) awei kebiasaan Nuh, Ad, Samud ngen tun-tun do gi teko sesudo tebo 'o. padahal Allah coal ok kezaliman neak adeb hamba-ham,ban e.</p>	<p>مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ</p> 
<p>32. Woi umatku! Sebeneane uku renyang nien ngen ko do gi (siksaan) bilai sesamo kedeu.</p>	<p>وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ</p> 
<p>33. (Do o ba) dong bilai (waktau) ko jelling moi belekang (melilai), coa de gen do tun, mampu semlamat ko kunei (azab) Allah. Barang api nunyau sesat oleh</p>	<p>يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ</p> 

Allah, niscayo coa de gen jano-jano do mampu melei petunjuk.

34. Nyen, ayok o Yusuf bi tekongen ko mbin bukti-bukti do nyato, tapi ko senantiaso meragau jano do gi nemien ne, bahkan waktau di ningen, ko madeak: "Allah coa kan kmirim do tun Rasul pun sesudo ne.

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زُلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٦٦﴾

35. (Do oba) tun-tun do ma'ok ayat-ayat Allah tanpa alas an do sapei ngen tebo'o. kebiek nyen lai kemurkaan (bagi tebo'o) neak sisik Allah ngen tun-tun do berimen. Sudo ba Allah menucai atei tiap tun do omong dan berlaku seklok ne.

الَّذِينَ تَجِدُلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٦٧﴾

36. Fir'aun madeak, " Woi Haman! Nea ba untukku do bangunan lekat yau uku sapei neak bang-bang.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمْنُنُ ابْنِ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٦٨﴾

37. (Do o ba) bang-bang lenget, supayo uku dapet kemliak tuhan ne Musa tapi uku yeyep madeak si tunne pendusta. "Semudo ne o ba jijai teraso ba'es bagi fir'aun perbuatan kidek ne o, si tertutup kunei dalen (do benea): tipu dayo Fir'aun o coa lunyen honyo bam bin kerugai.

أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٦٩﴾

38. Tun do gi berimen o madeak. Hoi umatku! Tenotoa ba uku, uku akan temunyak ngen ko dalen do gi benea.

وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٧٠﴾

39. Hoi umatku! Sebenane idup neak dunio hanyo ba kesenangan (sementaro). Sebeneane akherat do gi kekal.

يَنْقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْأَخْرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٧١﴾

40. Barang api kemerjo perbuatan jahat, mako si akan nles samo ngen kejahatan o. barang api kemrjo do baik semenei maupun selawei sedangkan si lem keadaan berimen, mako tebo'o akan masuk syurgo. Tebo'o nelei jerkai neak lem ne coa namen kedau ne.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تَجْزِيْهِ اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ
صَلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

41. Hoi umatku! Awei pe diyo, uku majok ko moi keselamatan tapi ko majok moi nerako?.

وَيُنْقِوْمِ مَا لِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجْوَةِ
وَتَدْعُوْنِيْ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

42. (Getai) ko majok uku supaya kafir ngen Allah, do kulo mempersekutukan ne ngen sesuatu do uku gen lemau tentang o. padahal uku majok ko (berimen) ngen do gi maha perkaso, maha pengapun?.

تَدْعُوْنِيْ لِاَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَاَشْرِكْ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ
بِهٖ عِلْمٌ وَاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٤٢﴾

43. Sudo benea bahwa do gi ko madeak (supayo uku) (berimen) ngensi coa dapet meluak majok adepun adepun baik ne neak duni'o maupun neak akhirat, dan sebeneane ite belek ngen Tuhan dan sebeneane tun-tun do di melitas batas, tobo'o ba temanggau nerako.

لَا جْرَمَ اَنْمَّا تَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنْ مَّرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنْ
الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

44. Sudoyo ko akan tinget gen do gi sudo uku madeak ngen ko. Dan uku semreak urusanku ngen ko. Sebeneane Tuhan maha kemliak hamba-hamba ne.

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُولُ لَكُمْ وَاُفْوِضْ اَمْرِيْ
اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

45. Mako Tuhan ne memeliharone kuney kejahatan tipu dayo tobo'o dan Fir'aun beserto kaumne genpung oleh azab do gi kembang kidek.

فَوَقَدْنَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكُرُوْا وَاَحَاقَ بِقَالِ
فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

46. Ngen d tobo'o gi kenten nerako pado pueng ngen pelebeak, ngen pado kebilai terjijai ne kiamat (nadeak ngen malaikat), nasuk ba Fir'aun ngen kaum ne mog diem lem azab do gi kembang kejam.

النَّارِ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اِلَآلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

47. Dan (tinget ba) ketiko tobo'o berbanta-banta leam nerako, mako tun-tun do gi lemah madeak ngen tun do gi mombong awok, sebeneane keme ade ba penotoa-penotoa nu. Mako dapetka ku menghindarikan zuney keme sebagian azab opoi nerako?
- وَأِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُؤُا
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ
مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾
48. Tun-tun do gi mombong awok menjawab “sebeneane ite kute samo-samo leam nerako kareno sebeneane Tuhan sudo temtep keputusan neak antaro hamba-hamba ne.
- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ
قَدَّ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾
49. Dan tun-tun gi ade leam nerako madeak ngen penkago-penjago nerako Jahannam “mohon ba ngen Tuhan nu supayo melengan azab kuney keme barang debilai.
- وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ
يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾
50. Penjago jahannam madeak,”dan janoka ati sapey ngen ko rasul-rasul nu ngen embien keterangan-keterangan? “tobo o menjawab betoa (bi sapei) “penjago jahannam madeak, “du o ba ko” dan du'o tun-tun kapia o sio-sio bae.
- قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا^ط وَمَا دُعْتُوا الْكَاْفِرِينَ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾
51. Sebeneane keme temulung rasul-rasul keme ngen tun-tun do gi berimen leam idupne neak duni'o ngen bilai tegokne saksei-saksei (bilai kiamat).
- إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾
52. (Do'o ba) bilai do gi coa beguno bagei tun-tun zalim permohonan maaf ne ngen bagei tobo'o do laknat ngen bagei tobo'o gi kakea tinggea do kidek.
- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ^ط وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾
53. Dan sesungguhnya bi keme meley petunyak mageh Musa; dan keme wariske Taurat mageh Bani Israil.
- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾

54. Untuk menjijei petunjuk ngen peringatan bagei tun-tun de kafir. هُدًى وَذِكْرٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾
55. Mako bersabar bah ko, kareno sesungguhnya janjei Allah ho beneh, dan minai bah ampunan untuk duso ko do kulo bertasbe ba serayo memujei Tuhan nu pado wakteu kelbeak ngen kabuk. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾
56. Sebeneane tun-tun de memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah coa gen alasan de sapei magesh tobo'o coa ade nak lem dado tobo'o melainkan hanya ba (kelak akan) dolai de tobo'o debat-debat coa akan mencapeine, mako kinay ba perlindungan magesh Allah. Sebeneane si maha temngoan ngen maha kemleah. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَلِّغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾
57. Sebeneane menia lenget ngen dunio lebiak lai menia manusio. Akan tetapi tun dau coa namen. لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾
58. Dan coa ba serai tun do buto ngen tun do kemliak, do pulo coa kulo samo tun-tun do berimen serto dogi kemerjo amea soleh ngen tun do gi durhako. Didik niyen ko muk pelajaran. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾
59. Sebeneane bilai kiamat pasti akan teko, coa gen keraguan tentangne, akan ttapi do dau tun coa berimen. إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾
60. Dan Tuhannu madeak, du'o ba ngen uku, cahaya akan ku liey ngen ko, sebeneane tun-tun do gi mumbong awok sembeak uku. Pasti masuk nerako Jahanam liem keadaan hino dina. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾
61. Tuhan ba menea kelmien untuk nu supayo ku istirahat ngen si, ngen menia kebilai teang-menang, sebeneane Tuhan ade karunia do gi niliey do gi niliey ne اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ

<p>ngen manusio, akan tetapi dau manusio coa bersyukur.</p>	<p>أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾</p>
<p>62. Do demikian o adeba Tuhan. Tuhanmu menea kute do ade, coa gen Tuhan selain si. Mako gen roba ko ijai coat un maham?.</p>	<p>ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾</p>
<p>63. Awen demikian ba do gi palingkan tun-tun do gi selalu mengingkari ayat-ayat Tuhan.</p>	<p>كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ تَجَحُّذُونَ ﴿٦٣﴾</p>
<p>64. Tuhan ba di gi menea bunio bagi tie kekea temtep dan lenget sagai atep, ngen meneako do kulo emba'eske pepeanu serto meleay ko resekai ngen melei do gi baik-baik. Do demikian adeba Allah Tuhan nu, maha agung Allah, Tuhan semesta alam.</p>	<p>اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾</p>
<p>65. Sib a do gi idup kekal, coa gen Tuhan selain si, mako sembeak ba si. Ngen menjenia ibada ngen si, kute puji bagi Allah Tuhan semesta alam.</p>	<p>هُوَ الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾</p>
<p>66. Nadeak ba (wey Muhammad) sebeneane uku coa buleak semembea do gi ko samba seleyen Allah. Sesudo teko ngen uku keterangan-ketrangan kuney Tuhanku, dan uku gi neritea supayo tunduk patu ngen Tuhan semesta alam..</p>	<p>﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٦٦﴾</p>
<p>67. Sib o gi meneako kunei pitak sedem o kunei setetes bioa mani, sudem o kunei segum daleak, sudem o nelaherkan ko jiji tun titik, sudem o (kunanyeune ko idup igei) sapie teuwei, nak antaro ko ade gi cenabutene ngabei ayak o (keme menea awie o) supayo ko sapie magia ajalnu gi bitentep sudem o mako ko mengentei.</p>	<p>هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ ۗ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾</p>

68. Sib a gi menghindupkan ngan monoak, mako amensi bi tmtep jano bae urusan, si cumin madeak mageane “jijei” mako jijei basi

هُوَ الَّذِي تُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

69. Jano ko coa magea tuntunan gi melawen suet-suet Allah? Akoak tobo o dapet coa pedulei?.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ جُئِدُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصِرُّونَ ﴿٦٩﴾

70. (Do aba) tun-tun gi cos masei Al Kitab (Al Quran) ngan wahyu gibi nemin para rasul-rasul keme sudem keme kirim, sudoyo tabo o paset namen.

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

71. Gidang neket ngan rantai bi nasang nak kagen to bo o, samo si seneet.

إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

72. Mai lem bio a gi panes nien, sudem o tobo o nemen lem opoi.

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

73. Sudem o bi nadeak magea to bo a “gidipe berhala-berhala gi cet nu kemwato.

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيُّبَٰنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

74. (Gi sembeaknu) leyen kumei Allah? “tobo o jemawab: “tobo o bi laput cigei keten kunei keme, spie keme blo o coa perneak sembeak jano-jano” awie o ba Allah meloak mlimeu tun-tun kafir.

مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُنْ نَادِعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

75. Si awie o kunie ko semang nien nak mako bumei gi coa benea karno ko bit cet senang-senang lem duso ngen maksiat.

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

76. (Bi nadeak magea to bo o):”masuk ba mai bang-bang nerako jahannam, be ko kekal nak lem ne, mako do oba sebuuk-buuk penan magea tun-tun gi bo omong

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

77. Mako bersabarba ko, sebeneane janjei Allah da oba benea: mako meskipun kame meloak kemleak majaan ko sepa sikso gi keme semaben magea to bo o atau keme wafatkan ko (ayak ajal kemno tobo o)namun magea keme ba to boa neleak.

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَأِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ
الَّذِي نَعَدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَاٰلِئِنَّا يُرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾

78. Sebeneane sudem keme mutus pa o rasul ajak ko, nak antaro to bo o ade keme cemrito mageako sudem o nak antaro to bo o ade coa keme cemrito magea ko, coa dapet bagei suang rasul min berupo mu'jizat, seleyen kunei izin Allah mako amensi sudem sapie perinteak Allah nutusba (kete perkara) ngan adil pada waktau o, rugei ba tun-tun gi coa berpegang magea kebatilan.

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن
قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ بِغَايَةِ الْاٰلِ بِاِذْنِ اللَّهِ
فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ
الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

79. Allah ba gi sudem menea bnatang ternak untukmu, se pa one untuk ko temengek ngan sepa one untuk ko muk.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اَلْاَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

80. Gi maseak ade manfaat-manfaat gi leyenne nak bnatang ternak o untuknu, supayo ko sapie magea suatu klak gi naik lem atie lem atie amen ko temengek ne, kemudian ko dapet nemin liwet temengek bnatang-bnatang samo ngan temengek kapal.

وَلَكُمْ فِيهَا مَنۢفِعٌ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي
صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْاَفْلَاقِ تَحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

81. Adeba si meloak kemleak magea ko tano-tano (kekuajaanne): make tano-tano (kekuasaan) Allah, gi dipe gi ko mengikar.

وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَاٰىءَ آيَاتِ اللَّهِ تُنۢكِرُونَ ﴿٨١﴾

82. Mako jano si tabo o coa mengadekan pemamue nak muko bunei sudem o si kemleak ngawie nian kesudem tun-tun ayak tobo o adeba tun-tun ayak tobo o ba lebeak gerot tenagone ngan (lebeak deu) kes-kes tobo a nak muka bumei, mako jano gi to bo o usahakan o coa dapet

اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنۢ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوا اَكۢثَرًا مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً
وَعَاثَرَا فِي الْاَرْضِ فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوا

temulung tobo o.

يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾

83. Maka gidang sapie magea toboa rasul-rasul (gibi rutilus magea) to bo sambil min peneang-peang, tobo o seraso senang ngan ilmeu gi ade nakne sudem o tobo o kenpung ken magea azab Allah gi bi cet tabo o ngimak mimak.

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٤﴾

84. Mako saat tabo o kemleak azab keme, toba o madeak "keme beriman hanyo magrs Allah bae keme kafir magea sembahan sembahan gi keme semamei ngan Allah.

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّهُر
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٥﴾

85. Mako iman tobo coa deba nagei tobo o, siding to bo o sudem kemleak akso keme, do o ba sunnah Allah gi bi sudem blakeu magea umat-umat-Ne na pada wakteu o binasa bat un-tun kafir.

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَنَّتْ
اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ وَخَسِرَ هُنَالِكَ

الْكَافِرُونَ ﴿٨٦﴾